

Rev

Chapter 14

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

- 1 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ, τὸ Ἄρνιον ἑστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ
اور میں نے دیکھا اور دیکھو وہ بڑا کھڑا ہوا پر اُس پہاڑ صیون اور
[G2532](#) [G3708](#) [G2532](#) [G3708](#) [G3588](#) [G0721](#) [G2476](#) [G1909](#) [G3588](#) [G3735](#) [G4622](#) [G2532](#)
- μετ' αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ,
ساتھ اُس کے ایک سو چالیس چار ہزار رکھنے والے وہ نام کا
[G3326](#) [G0846](#) [G1540](#) [G5062](#) [G5064](#) [G5505](#) [G2192](#) [G3588](#) [G3686](#) [G0846](#)
- καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ, γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.
اور وہ نام اُس کا باپ کے اُس کا لکھا ہوا پر اُن پر پیشانیوں کی
[G2532](#) [G3588](#) [G3686](#) [G3588](#) [G3962](#) [G0846](#) [G1125](#) [G1909](#) [G3588](#) [G3359](#) [G0846](#)

کا باپ کے اُس اور کا اُس پر ماتھوں کے جن تھے کھڑے افراد 1,44,000 ساتھ کے اُس ہے۔ کھڑا پر پہاڑ کے صیون ہی سامنے میرے لیلا کہ دیکھا نے میں پھر
تھا۔ لکھا نام

- 2 καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν, καὶ
اور میں نے سنا آواز سے اُس آسمان جیسے آواز پانیوں کی بہت اور
[G2532](#) [G0191](#) [G5456](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3772](#) [G5613](#) [G5456](#) [G5204](#) [G4183](#) [G2532](#)
- ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης, καὶ ἡ φωνὴ ἦν ἤκουσα, ὡς κιθαρῳδῶν
جیسے آواز گرج کی بڑی اور وہ آواز جو میں نے سنی جیسے کی
[G5613](#) [G5456](#) [G1027](#) [G3173](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5456](#) [G3739](#) [G0191](#) [G5613](#) [G2790](#)
- κιθαρῳδῶν ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν.
بجاتے ہوئے پر اُن بربطوں کی اُن کی
[G2789](#) [G1722](#) [G3588](#) [G2788](#) [G0846](#)

سرود جو تھی مانند کی آواز اُس یہ تھی۔ مانند کی کڑک اونچی کی بادلوں گرجتے اور آہشار بڑے کسی جو سنی آواز ایسی ایک سے آسمان نے میں اور
ہیں۔ نکالتے سے سازوں اپنے والے بجائے

- 3 καὶ ἄδουσιν ἄνωθεν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ ἐνώπιον τῶν
اور گاتے ہیں جیسے گیت نیا سامنے اُس کے تخت کے اور سامنے اُن
[G2532](#) [G0103](#) [G5613](#) [G5603](#) [G2537](#) [G1799](#) [G3588](#) [G2362](#) [G2532](#) [G1799](#) [G3588](#)
- τεσσαράρων ζώων, καὶ τῶν πρεσβυτέρων. καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν
چار جانداروں کے اور اُن بزرگوں کے اور کوئی نہیں سکتا تھا وہ سیکھنا
[G5064](#) [G2226](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4245](#) [G2532](#) [G3762](#) [G1410](#) [G3129](#) [G3588](#)
- ἄνωθεν, εἰ μὴ αἰ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι
گیت مگر نہیں وہ ایک سو چالیس چار ہزار جو خریدے گئے
[G5603](#) [G1487](#) [G3361](#) [G3588](#) [G1540](#) [G5062](#) [G5064](#) [G5505](#) [G3588](#) [G0059](#)
- ἀπὸ τῆς γῆς.
سے اُس زمین
[G0575](#) [G3588](#) [G1093](#)

نے لیے جنہیں سکے سیکھ وہی صرف جو گیت ایسا ایک تھے، رہے گا گیت نیا ایک کھڑے سامنے کے بزرگوں اور جانداروں چار تخت، افراد 1,44,000
تھا۔ لیا خرید سے زمین

4	οὗτοί	εἰσιν	οἱ	μετὰ	γυναικῶν	οὐκ	ἐμολύνθησαν;	παρθένοι	γάρ	εἰσιν.	οὗτοι
	یہ	ہیں	جو	ساتھ	عورتوں کے	نہیں	آلودہ ہوئے	کنوارے	کیونکہ	ہیں	یہ
	G3778	G1510	G3739	G3326	G1135	G3756	G3435	G3933	G1063	G1510	G3778
	οἱ	ἀκολουθοῦντες	τῷ	Ἀρνίῳ	ὅπου	ἂν	ὑπάγη.	οὗτοι	ἠγοράσθησαν	ἀπὸ	
	وہ	پیروی کرنے والے	اُس	بڑے کے	جہاں	بھی	جاتا ہے	یہ	خریدے گئے	سے	
	G3588	G0190	G3588	G0721	G3699	G0302	G5217	G3778	G0059	G0575	
	τῶν	ἀνθρώπων	ἀπαρχῆ	τῷ	Θεῷ,	καὶ	τῷ	Ἀρνίῳ:			
	اُن	انسانوں میں سے	پہلے پہل	اُس	خدا کے لیے	اور	اُس	بڑے کے لیے			
	G3588	G0444	G0536	G3588	G2316	G2532	G3588	G0721			

باقی انہیں ہیں۔ جاتے بھی وہ وہاں بے جاتا لیلا بھی جہاں ہیں۔ کنوارے وہ کیونکہ کیا، نہیں آلودہ ساتھ کے خواتین کو آپ اپنے نے جنہوں ہیں مرد وہ یہ ہے۔ گیا خرید لٹے کے لیے اور اللہ سے حیثیت کی پہل پہلے کے فصل سے میں انسانوں

5	καὶ	ἐν	τῷ	στόματι	αὐτῶν	οὐχ	εὐρέθη	ψεῦδος;	ἄμωμοί	εἰσιν	ξένῳπιον
	اور	میں	اُس	منہ میں	اُن کے	نہیں	پایا گیا	جھوٹ	بے عیب	ہیں	سامنے
	G2532	G1722	G3588	G4750	G0846	G3756	G2147	G5579	G0299	G1510	G1799
	τοῦ	θρόνου	τοῦ	Θεοῦ}.							
	اُس	تخت کے	اُس	خدا کے							
	G3588	G2362	G3588	G2316							

ہیں۔ بے الزام وہ بلکہ نکلا نہیں جھوٹ کبھی سے منہ کے اُن

6	Καὶ	εἶδον	ἄλλον	ἄγγελον	πετόμενον	ἐν	μεσουρανῆματι,	ἔχοντα	εὐαγγέλιον		
	اور	دیکھا	میں نے دیکھا	اور	فرشتہ	اُڑتا ہوا	آسمان کے بیچ	رکھتا ہوا	خوشخبری		
	G2532	G3708	G0243	G0032	G4072	G1722	G3321	G2192	G2098		
	αἰώνιον	εὐαγγελίαι	ἐπὶ	τοὺς	καθημένους	ἐπὶ	τῆς	γῆς,	καὶ	ἐπὶ	πᾶν
	ابدی	سنانے کو	پر	اُن	بیٹھے ہوئوں کو	پر	اُس	زمین کے	اور	پر	ہر
	G0166	G2097	G1909	G3588	G2521	G1909	G3588	G1093	G2532	G1909	G3956
	ἔθνος,	καὶ	φυλῆν,	καὶ	γλῶσσαν,	καὶ	λαόν;				
	قوم	اور	قبیلہ	اور	زبان	اور	لوگ				
	G1484	G2532	G5443	G2532	G1100	G2532	G2992				

باشندوں کے زمین اُسے وہ تاکہ تھی خبری خوش ابدی کی اللہ پاس کے اُس تھا۔ رہا اُن میں ہوا ہی اوپر کے سر میرے وہ دیکھا۔ فرشتہ اور ایک نے مہیں پھر سنائے۔ کو اُمت اور زبان اہل قبیلے، قوم، ہر یعنی

7	λέγων	ἐν	φωνῇ	μεγάλῃ,	Φοβήθητε	τὸν	Θεὸν,	καὶ	δότε	αὐτῷ	δόξαν,
	بوا	سے	آواز	بڑی	ڈرو	اُس سے	خدا	اور	دو	اُسے	جلال
	G3004	G1722	G5456	G3173	G5399	G3588	G2316	G2532	G1325	G0846	G1391
	ὅτι	ἦλθεν	ἡ	ῥα	τῆς	κρίσεως	αὐτοῦ;	καὶ	προσκυνήσατε	τῷ	ποιήσαντι
	کیونکہ	آیا	وہ	گھڑی	اُس	عدالت کی	اُس کی	اور	سجدہ کرو	اُسے	بنانے والے کو
	G3754	G2064	G3588	G5610	G3588	G2920	G0846	G2532	G4352	G3588	G4160
	τὸν	οὐρανὸν,	καὶ	τὴν	γῆν,	καὶ	θάλασσαν,	καὶ	πηγὰς	ὕδατων.	
	وہ	آسمان	اور	وہ	زمین	اور	سمندر	اور	چشمے	پانیوں کے	
	G3588	G3772	G2532	G3588	G1093	G2532	G2281	G2532	G4077	G5204	

سمندر زمین، آسمانوں، نے جس کرو سجدہ اُسے ہے۔ گیا آ وقت کا عدالت کی اُس کیونکہ دو، جلال اُسے کر مان خوف کا خدا کہا، سے آواز اونچی نے اُس ہے۔ کیا خلق کو چشموں کے پانی اور

8 Καὶ ἄλλος, ἄγγελος □ δεύτερος ἠκολούθησεν, λέγων, Ἔπεσεν, ἔπεσεν Βαβυλῶν
 اور اور فرشتہ دوسرا پیچھے آیا کہتا ہوا گرا گرا بابل
[G2532](#) [G0243](#) [G0032](#) [G1208](#) [G0190](#) [G3004](#) [G4098](#) [G4098](#) [G0897](#)

ἡ μεγάλη; ἡ ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς,
 وہ بڑا جس نے سے اُس مے اُس اُس غضب کے اُس حرام کاری کے اُس کی
[G3588](#) [G3173](#) [G3739](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3631](#) [G3588](#) [G2372](#) [G3588](#) [G4202](#) [G0846](#)

πεπότηκεν πάντα τὰ ἔθνη.
 پلایا ساری وہ قوموں کو
[G4222](#) [G3956](#) [G3588](#) [G1484](#)

اور کاری حرام اپنی کو قوموں تمام نے جس ہے، گیا گر بابل عظیم ہاں، ہے! گیا گر □ وہ کہا، بوئے چلتے پیچھے پیچھے کے پہلے نے فرشتے دوسرے ایک ہے۔ □ پلائی مے کی مستی

9 Καὶ ἄλλος, ἄγγελος, τρίτος, ἠκολούθησεν αὐτοῖς, λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ,
 اور اور فرشتہ تیسرا پیچھے آیا اُن کے سے کہتا ہوا آواز بڑی
[G2532](#) [G0243](#) [G0032](#) [G5154](#) [G0190](#) [G0846](#) [G3004](#) [G1722](#) [G5456](#) [G3173](#)

Εἶ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει
 اگر کوئی سجدہ کرے اُس اور حیوان کو اُس اور تصویر کو اُس کی اور لے
[G1487](#) [G5100](#) [G4352](#) [G3588](#) [G2342](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1504](#) [G0846](#) [G2532](#) [G2983](#)

χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ, ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ,
 نشان پر اُس پر پیشانی کے اُس کی یا اُس پر اُس ہاتھ کے اُس کے
[G5480](#) [G1909](#) [G3588](#) [G3359](#) [G0846](#) [G2228](#) [G1909](#) [G3588](#) [G5495](#) [G0846](#)

بھی جسے اور کرے سجدہ کو مجسمے کے اُس اور حیوان بھی □ جو کہا، سے آواز اونچی نے اُس تھا۔ رہا چل فرشتہ تیسرا ایک پیچھے کے فرشتوں دو ان جائے مل پر ہاتھ یا ماتھے اپنے نشان کا اُس

10 καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ
 وہ بھی پیئے گا سے اُس مے اُس اُس غضب کے اُس خدا کے جو
[G2532](#) [G0846](#) [G4095](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3631](#) [G3588](#) [G2372](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3588](#)

κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ; καὶ
 ملایا گیا خالص میں اُس میں پیالے میں اُس کے قہر کے اُس کے اور
[G2767](#) [G0194](#) [G1722](#) [G3588](#) [G4221](#) [G3588](#) [G3709](#) [G0846](#) [G2532](#)

βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ, ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων, καὶ ἐνώπιον
 عذاب پائے گا میں آگ اور گندھک سامنے فرشتوں کے مقدس اور سامنے
[G0928](#) [G1722](#) [G4442](#) [G2532](#) [G2303](#) [G1799](#) [G0032](#) [G0040](#) [G2532](#) [G1799](#)

τοῦ Ἄρνιου.
 اُس کے بڑے کے
[G3588](#) [G0721](#)

اُسے حضور کے لیے اور فرشتوں مُقدس ہے۔ گئی ڈالی میں پیالے کے غضب کے اللہ ہی بغیر کے ملاوٹ جو مے ایسی گا، پیئے سے مے کی غضب کے اللہ وہ گا۔ پڑے سہنا عذاب کا گندھک اور آگ

11	καὶ	ὁ	καπνὸς	τοῦ	βασανισμοῦ	αὐτῶν	εἰς	αἰῶνας	αἰώνων	ἀναβαίνει;
	اور	وہ	دھواں	اُس	عذاب-کا	اُن-کا	تک	ابد	الاباد	اُٹھتا-ہے
	G2532	G3588	G2586	G3588	G0929	G0846	G1519	G0165	G0165	G0305
	καὶ	οὐκ	ἔχουσιν	ἀνάπαυσιν,	ἡμέρας	καὶ	νυκτός,	οἱ	προσκυνοῦντες	τὸ
	اور	نہیں	رکھتے-ہیں	آرام	دن	اور	رات	وہ	سجدہ-کرنے-والے	اُس
	G2532	G3756	G2192	G0372	G2250	G2532	G3571	G3588	G4352	G3588
	θηρίον	καὶ	τὴν	εἰκόνα	αὐτοῦ,	καὶ	εἶ	τις	λαμβάνει	τὸ
	حیوان-کو	اور	اُس	تصویر-کو	اُس-کی	اور	اگر	کوئی	لے	وہ
	G2342	G2532	G3588	G1504	G0846	G2532	G1487	G5100	G2983	G3588
	χάραγμα	τοῦ								
	اُس	اُس								
	G3588	G3588								
	ὄνοματος	αὐτοῦ.								
	نام-کا	اُس-کے								
	G3686	G0846								

اُس نے جنہوں یا ہیں کرتے سجدہ کو مجسمے کے اُس اور حیوان جو گا۔ رہے چڑھتا تک ابد دھواں کا اِس گی، رہے جلتی آگ یہ والی ستانے کو لوگوں اِن اور گے۔ پائیں آرام کو رات نہ دن، نہ وہ یہ لیا نشان کا نام کے

12	ᾧ	ὑπομονῇ	τῶν	ἀγίων	ἐστίν,	οἱ	τηροῦντες	τὰς	ἐντολὰς	τοῦ
	یہاں	وہ	صبر	اُن	مقدسوں-کا	ہے	جو	رکھتے-ہیں	وہ	اُس
	G5602	G3588	G5281	G3588	G0040	G1510	G3588	G5083	G3588	G1785
	Θεοῦ,	καὶ	τὴν	πίστιν	Ἰησοῦ.					
	خدا-کے	اور	وہ	ایمان	یسوع-کا					
	G2316	G2532	G3588	G4102	G2424					

ہیں۔ رہتے وفادار کے عیسیٰ اور کرتے پورے احکام کے اللہ جو انہیں ہے، ضرورت کی رہنے قدم ثابت کو مقدسین یہاں

13	Καὶ	ἤκουσα	φωνῆς	ἐκ	τοῦ	οὐρανοῦ,	λεγουσῆς	Γράψον,	Μακάριοι	οἱ
	اور	میں-نے-سنا	آواز	سے	اُس	آسمان	کہتی-ہوئی	لکھ	مبارک	وہ
	G2532	G0191	G5456	G1537	G3588	G3772	G3004	G1125	G3107	G3588
	νεκροὶ	οἱ	ἐν	Κυρίῳ	ἀποθνήσκοντες	ἀπ’	ἄρτι.	ναί,	λέγει	τὸ
	مردے	جو	میں	خداوند	مرتے-ہیں	سے	اب	ہاں	کہتی-ہے	وہ
	G3498	G3588	G1722	G2962	G0599	G0575	G0737	G3483	G3004	G3588
	ἵνα	ἀναπαύσονται	ἐκ	τῶν	κόπων	αὐτῶν;	τὰ	γὰρ	ἔργα	αὐτῶν
	تاکہ	آرام-کریں-گے	سے	اُن	محنتوں	اُن-کی	وہ	کیونکہ	کام	اُن-کے
	G2443	G0373	G1537	G3588	G2873	G0846	G3588	G1063	G2041	G0846
	μετ’	αὐτῶν.								
	ساتھ	اُن-کے								
	G3326	G0846								

ہے، فرماتا روح ہاں، جی ہیں۔ پاتے وفات میں خداوند سے اب جو مردے وہ ہیں مبارک لکھ، سنی، ہوئی کہتی یہ آواز ایک سے آسمان نے میں پھر گے۔ چلیں ساتھ اُن کر ہو پیچھے کے اُن کام نیک کے اُن کیونکہ گے، پائیں آرام سے مشقت محنت اپنی وہ

14	Καὶ	εἶδον,	καὶ	ἰδοὺ,	νεφέλη	λευκή,	καὶ	ἐπὶ	τὴν	νεφέλην	καθήμενον
	اور	میں-نے-دیکھا	اور	دیکھو	بادل	سفید	اور	پر	اُس	بادل	بیٹھا-ہوا
	G2532	G3708	G2532	G3708	G3507	G3022	G2532	G1909	G3588	G3507	G2521
	ὁμοιον	υἱὸν	ἀνθρώπου,	ἔχων	ἐπὶ	τῆς	κεφαλῆς	αὐτοῦ	στέφανον	χρυσοῦν,	
	مشابہ	بیٹا	انسان-کے	رکھتا-ہوا	پر	اُس	سر	اُس-کے	تاج	سنہرا	
	G3664	G5207	G0444	G2192	G1909	G3588	G2776	G0846	G4735	G5552	
	καὶ	ἐν	τῇ	χειρὶ	αὐτοῦ	δρέπανον	ὄξυ.				
	اور	میں	اُس	ہاتھ	اُس-کے	درانتی	تیز				
	G2532	G1722	G3588	G5495	G0846	G1407	G3691				

تھی۔ درانتی تیز میں ہاتھ اور تاج کا سونے پر سر کے اُس تھا۔ مانند کی آدم ابن جو تھا بیٹھا کوئی پر اُس اور دیکھا، بادل سفید ایک نے میں پھر

- 15 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξήλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ, κράζων ἐν φωνῇ μεγάλη
اور اور فرشتہ نکلا سے سے اُس بیکل پکارتا-بوا سے سے آواز بڑی
G2532 G0243 G0032 G1831 G1537 G3588 G3485 G2896 G1722 G5456 G3173
- τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης, Πέμψον τὸ δρέπανόν σου καὶ θέρισον;
اُسے اُسے بیٹھے-بوئے-کو پر اُس بادل بھیج تیری درانتی تیری اور کاٹ
G3588 G2521 G1909 G3588 G3507 G3992 G3588 G1407 G4771 G2532 G2325
- ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα θερίσαι, ὅτι ἐξηράνθη ὁ θειρισμὸς τῆς γῆς.
کیونکہ آیا وہ گھڑی کائے-کی کیونکہ سوکھ-گئی وہ فصل اُس زمین-کی
G3754 G2064 G3588 G5610 G2325 G3754 G3583 G3588 G2326 G3588 G1093

کیونکہ کرا! کٹائی کی فصل کر لے درانتی [] اپنی تھا، بیٹھا پر بادل جو بوا مخاطب سے اُس کر پکار سے آواز اونچی کر نکل سے گھر کے اللہ فرشتہ اور ایک ہے۔ [] گئی پک فصل کی پر زمین اور بے گیا آ وقت کا کائے فصل

- 16 καὶ ἔβαλεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῆς νεφέλης, τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ
اور ڈالا اُس سے سے بیٹھے-بوئے-نے پر اُس بادل اپنی درانتی اپنی پر
G2532 G0906 G3588 G2521 G1909 G3588 G3507 G3588 G1407 G0846 G1909
- τὴν γῆν, καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ.
اُس زمین اور اور کائی-گئی وہ زمین
G3588 G1093 G2532 G2325 G3588 G1093

ہوئی۔ کٹائی کی فصل کی زمین اور چلائی پر زمین درانتی اپنی نے والے بیٹھے پر بادل چنانچہ

- 17 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξήλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, ἔχων
اور اور فرشتہ نکلا سے سے اُس سے سے اُس بیکل اُس میں اُس آسمان رکھتا-بوا
G2532 G0243 G0032 G1831 G1537 G3588 G3485 G3588 G1722 G3588 G3772 G2192
- καὶ αὐτὸς δρέπανον ὄξυ.
بھی وہ درانتی تیز
G2532 G0846 G1407 G3691

تھی۔ درانتی تیز بھی پاس کے اُس اور ہے، پر آسمان جو آیا نکل سے گھر اُس کے اللہ فرشتہ اور ایک بعد کے اِس

- 18 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξήλθεν ἐκ τοῦ θουσιαστηρίου, ὁ ἔχων ἐξουσίαν
اور اور فرشتہ نکلا سے سے اُس سے سے قربان-گاہ جو رکھتا-تھا جو اختیار
G2532 G0243 G0032 G1831 G1537 G3588 G2379 G3588 G2192 G1849
- ἐπὶ τοῦ πυρός, καὶ ἐφώνησεν φωνῇ μεγάλη τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον
پر اُس آگ-کا اور اور پکارا سے سے آواز-سے سے بڑی اُسے رکھنے-والے-کو وہ درانتی
G1909 G3588 G4442 G2532 G5455 G5456 G3173 G3588 G2192 G3588 G1407
- τὸ ὄξυ, λέγων, Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὄξυ, καὶ τρύγησον τοὺς
وہ تیز تیز بوا-کہتا-بوا بھیج تیری تیری درانتی وہ تیز اور اور توڑ وہ
G3588 G3691 G3004 G3992 G4771 G3588 G1407 G3588 G3691 G2532 G5166 G3588
- βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς; ὅτι ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς.
گچھے اُس کے انگور-کے اُس سے سے زمین-کے کیونکہ پکے وہ انگور اُس کے
G1009 G3588 G0288 G3588 G1093 G3754 G0187 G3588 G4718 G0846

[] اپنی بوا، مخاطب سے فرشتے بوئے پکڑے درانتی تیز کر پکار سے آواز اونچی اور آیا سے گاہ قربان وہ تھا۔ اختیار پر آگ اُسے آیا۔ فرشتہ تیسرا ایک پھر ہیں۔ [] گئے پک انگور کے اُس کیونکہ کر، جمع گچھے کے انگور سے بیل کی انگور کی زمین کر لے درانتی تیز

19 καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ
اور ڈالا اُس میں اور زمین اور
[G2532](#) [G0906](#) [G3588](#) [G0032](#) [G3588](#) [G1407](#) [G0846](#) [G1519](#) [G3588](#) [G1093](#) [G2532](#)

ἐτρώγησεν τὴν ἄμπελον τῆς γῆς, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τοῦ θυμοῦ
توڑا وہ انگور اُس زمین-کا اور ڈالا میں اُس حوض اُس کے
[G5166](#) [G3588](#) [G0288](#) [G3588](#) [G1093](#) [G2532](#) [G0906](#) [G1519](#) [G3588](#) [G3025](#) [G3588](#) [G2372](#)

τοῦ Θεοῦ τὸν μέγαν;
اُس خدا-کے وہ بڑے
[G3588](#) [G2316](#) [G3588](#) [G3173](#)

نکالا رس کا انگور میں جس دیا پھینک میں حوض بڑے اُس کے غضب کے اللہ انہیں اور کئے جمع انگور کے اُس چلائی، درانتی اپنی پر زمین نے فرشتے
ہے۔جاتا

20 καὶ ἐπατήθη ἡ ληνὸς ἔξωθεν τῆς πόλεως, καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς
اور روندنا-گیا وہ حوض باہر اُس کے شہر-کے اور نکلا خون سے اُس
[G2532](#) [G3961](#) [G3588](#) [G3025](#) [G1855](#) [G3588](#) [G4172](#) [G2532](#) [G1831](#) [G0129](#) [G1537](#) [G3588](#)

ληνοῦ, ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων, ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων.
حوض تک اُن لگاموں اُن گھوڑوں-کی سے سٹیڈیا ہزار چھ-سو
[G3025](#) [G0891](#) [G3588](#) [G5469](#) [G3588](#) [G2462](#) [G0575](#) [G4712](#) [G5507](#) [G1812](#)

پہنچ تک دُور میٹر کلو 300 سیلاب بہ کا خون نکلا۔ بہ خون سے میں حوض کہ گیا روندنا اتنا کو انگوروں پڑے میں اُس تھا۔ واقع باہر سے شہر حوض یہ
گیا۔پہنچ تک لگاموں کی گھوڑوں کہ تھا زیادہ اتنا وہ اور گیا